



آپ ملازمت  
پر زخمی  
ہوئے تھے

# اب کیا ہو گا؟

ایک

ملازم کا دعویٰ

## فارم C-3

**NYS** ورکرز کمپنسیشن بورڈ

کے پاس اس صورت جمع  
کروائیں کہ اگر آپ کا وقت ضائع  
ہوا ہے اور/یا آپ نے ملازمت پر  
لگنے والی چوٹ یا بیماری کے  
لیے علاج حاصل کیا ہے۔

[WCB.NY.GOV](http://WCB.NY.GOV) | (877) 632-4996



**Workers'  
Compensation  
Board**

# فارم C-3 جمع کروانا آسان ہے

## آن لائن جمع کروائیں

فارم C-3 آن لائن جمع کروانے کے لیے [wcb.ny.gov](http://wcb.ny.gov) ملاحظہ کریں۔ یہ آپ کا دعویٰ دائر کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔

## خط کے ذریعے جمع کروائیں

فارم C-3 آپ کے آجر کے پاس، [wcb.ny.gov](http://wcb.ny.gov) پر، اور ورکرز کمپنسیشن بورڈ کے دفاتر میں دستیاب ہے۔

## کال کریں: (877) 632-4996

فارم C-3 جمع کروانے کے حوالے سے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے نمائندگان دستیاب ہیں۔

## یاد رکھیں

آپ پر تحریری شکل میں، 30 دن کے اندر، اپنے آجر کو اس بات سے آگاہ کرنا لازم ہے کہ آپ ملازمت پر زخمی ہوئے تھے۔

**NYS** ورکرز کمپنسیشن بورڈ یہاں مدد کے لیے موجود ہے

کال کریں: (877) 632-4996 پیر-جمعہ، صبح 8:30 - شام 4:30

ای میل: [advinjwkr@wcb.ny.gov](mailto:advinjwkr@wcb.ny.gov)

ملاحظہ کریں: [wcb.ny.gov](http://wcb.ny.gov)

[facebook.com/NYSWCB](https://facebook.com/NYSWCB) 

[twitter.com/NYSWorkersComp](https://twitter.com/NYSWorkersComp) 

[instagram.com/NYSWorkersCompBoard](https://instagram.com/NYSWorkersCompBoard) 

[youtube.com/NewYorkStateWorkersCompensationBoard](https://youtube.com/NewYorkStateWorkersCompensationBoard) 

اس پتے پر WCB اطلاعات کے لیے سائن اپ کریں: [wcb.ny.gov/Notify](http://wcb.ny.gov/Notify) 

ریاست نیو یارک کا ورکرز کمپنسیشن بورڈ وظائف کی موزوں فراہمی اور قانون کی تعمیل کی ترویج کر کے ملازمین اور آجرین کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ ورکرز کمپنسیشن بورڈ کے متعلق مزید جاننے کے لیے [wcb.ny.gov](http://wcb.ny.gov) ملاحظہ کریں۔